



## Bank Mandate Form

Folio / CDS Account No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Name of Shareholder \_\_\_\_\_

S/o, D/o, W/o \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

### Bank Mandate Form For Electronic Credit of Cash Dividend

Dear Shareholder,

This is to inform you that in accordance with the Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Please note that giving bank mandate for dividend payments is **mandatory** and in order to comply with this regulatory requirement and to avail the facility of direct credit of dividend amount in your bank account, you are requested to please provide the following information:

(i) Shareholder's detail	
Name of the Shareholder	
Folio No. / CDC Account No.	
CNIC No.	
Passport No. (in case of foreign shareholder)	
Cell Number of Shareholder	
Landline Number of Shareholder, if any	
E-mail address	

(ii) Shareholder's bank detail	
Title of the Bank Account	
IBAN "24 Digits"	
Bank's Name	
Branch Name and Code No.	
Branch Address	

It is stated that the above mentioned information is correct and in case of any change therein, I/we will immediately intimate Participant / Share Registrar accordingly.

\_\_\_\_\_  
Signature of the Shareholder

You are requested to kindly send this Form duly filled in and signed along with legible photocopy of your valid CNIC to your Broker / CDC Participant / CDC Investor Account Service (in case your shareholding is in Book Entry Form) or in case your shareholding is in physical form to our Share Registrar, **CDC Share Registrar Services Ltd. CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74400, Pakistan.**



## بینک مینڈیٹ فارم

تاریخ \_\_\_\_\_

فولیو/سی ڈی سی نمبر \_\_\_\_\_  
شیر ہولڈر کا نام \_\_\_\_\_  
ولد \_\_\_\_\_  
پتہ \_\_\_\_\_

### بینک مینڈیٹ فارم برائے نقد منافع منقسمہ کالیکٹروٹک کریڈٹ

معزز شیر ہولڈر،

آپ کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۳۲ کے مطابق نقد کی صورت میں قابل ادائیگی کوئی بھی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹروٹک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل شیر ہولڈر کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی آگاہ رہیں کہ منافع منقسمہ کی ادائیگیوں کیلئے بینک مینڈیٹ فراہم کرنا لازم ہے اور اس قانونی شرط پر عملدرآمد کے ضمن میں اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ کی رقم براہ راست جمع کرانے کی سہولت حاصل کرنے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

(I) شیر ہولڈر کی تفصیل	
شیر ہولڈر کا نام	
فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر	
پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شیر ہولڈر ہونے کی صورت میں)	
شیر ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہو	
ای میل ایڈریس	

(II) شیر ہولڈر کے بینک کی تفصیل	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
آئی بی اے این "۲۳ ہندسوں پر مشتمل"	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور کوڈ نمبر	
برانچ کا پتہ	

یہ واضح کیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا معلومات درست ہیں اور ان میں کسی بھی تبدیلی سے میں/ہم فوری طور پر اپنے بروکر/سی ڈی سی پارٹنر/سی ڈی سی انویسٹر/سی ڈی سی سروسز یا شیر رجسٹرار کو لازمی آگاہ کروں گا/کریں گے۔

شیر ہولڈر کے دستخط

آپ سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی اس فارم کو باقاعدہ طور پر بھریں اور اس پر دستخط کر کے اپنے کارآمد سی این آئی سی کی واضح کاپی کے ہمراہ اپنے بروکر/سی ڈی سی پارٹنر/سی ڈی سی انویسٹر/سی ڈی سی سروسز (بک انٹری کی صورت میں شیر ہولڈنگ ہونے پر) یا فزیکل شکل میں آپ کی شیر ہولڈنگ ہونے کی صورت میں ہمارے شیر رجسٹرار، سی ڈی سی شیر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۴۲۰۰، پاکستان کو ارسال کر دیں۔